

# مدیر کے نام

بدر حسین، پشاور/ ماریہ چودھری، لاہور

پروفیسر محمد سعود عالم کا مضمون 'قرآن اور علم نافع' (نومبر ۲۰۱۸ء) زندگی اور علم کے بارے میں فرد کے نقطہ نظر کو وہ راہیں دکھاتا ہے، جو اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں۔

شائستہ نورین، شوپیاں، کشمیر

سری نگر سے میرے بچا ایک تحفے کے طور پر عالمی ترجمان القرآن کا شمارہ نومبر ۲۰۱۸ء لائے، جسے میں نے دو فہستوں میں پڑھ ڈالا۔ ہر مضمون کو پہلے مضمون سے بڑھ کر قیمتی پایا۔ خاص طور پر ڈاکٹر فہمید الدین ہاشمی نے قرآن حکیم سے اقبال کی وابستگی کو بڑے خوب صورت انداز سے بیان کیا ہے، اور یہ چیز ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنے پر ابھارتی ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی کی مختصر، مگر جامع تحریر 'توازن' نے بہت کچھ سوچنے کے لیے رہنمائی دی۔ پروفیسر خورشید احمد کی تحریر 'حکومت کی کارکردگی اور درپیش چیلنج' میں درد مندی اور ہمدردانہ بلکہ دوستانہ تنقید میں بھی گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ افتخار گیلانی نے جارحیت پسند بھارتی معاشرے میں مسلمانوں کی بے وزنی اور ظلم کی زیادتی کو جان دار انداز سے پیش کیا ہے۔ کاش! یہ رسالہ جموں و کشمیر کی برہمن اور برہمنی کے ہاتھ میں پہنچے۔

اصغر محمود، راولپنڈی/ نناد علی، ملتان

'ریاست مدینہ' اگرچہ ہمارے ہاں ایک نعرہ ہے، لیکن سچی بات ہے کہ یادداشت کو تازہ کرنے اور تاریخ سے جڑنے کا ایک وسیلہ بھی ہے۔ سید اسعد گیلانی نے بڑے مختصر انداز میں ہمیں ہماری گم شدہ جنت کی منزل بتائی ہے۔ پھر ڈاکٹر انیس احمد نے اسلامی تحریکوں کو آگے بڑھنے کے لیے رہنما اصول دیے ہیں۔

سعید عرفان ڈار، سری نگر/ غلام کبریٰ، بڑمگھم

قادیانیوں کی عالمی سرگرمیوں میں اضافے کے بارے میں جاوید اقبال خواجہ کے مضمون نے گہری فکر مندی سے دوچار کیا اور اس سے زیادہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا سبق دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان کی حیثیت سے ہمیں آگے بڑھ کر جھوٹے پروپیگنڈے کا تدارک کرنا چاہیے۔

حیدر عثمان، سکھر/ سعید نوید، کراچی/ صابر حسین، ریاض، سعودی عرب

'بھارت میں ارتداد یا بدحالی' کے موضوع پر ہمیشہ کی طرح افتخار گیلانی کا محنت اور مہارت سے لکھا پیغام اور تجزیہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھارت میں، برہمنیت کی اس جارحیت پسندی اور مسلمانوں کی بے بسی کا